



המשרד  
לחינוך

2025

משרד החינוך  
משרד החינוך

1..... 6..... 1

2..... 7..... 2

2.1..... 7..... 2.1

2.2..... 8..... 2.2

3..... 9..... 3

3.1..... 9..... 3.1

3.2..... 9..... 3.2

3.3..... 10..... 3.3

3.4..... 10..... 3.4

3.5..... 11..... 3.5

3.6..... 29..... 3.6

3.7..... 31..... 3.7

4..... 32..... 4

4.1..... 32..... 4.1

4.2..... 32..... 4.2

4.3..... 32..... 4.3

4.4..... 32..... 4.4

5..... 33..... 5

6..... 33..... 6

6.1..... 33..... 6.1

6.2..... 34..... 6.2

6.3..... 35..... 6.3

6.4..... 36..... 6.4

7..... 37..... 7

8..... 38..... 8

9..... 38..... 9

10	سۆز تەرجىمىسى ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى، ئىشلىتىش ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى، ئىشلىتىش ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	40
10-1	سۆز تەرجىمىسى ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	40
10-2	سۆز تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	40
10-3	2025 ۋە 2025 يىلى ئىشلىتىش ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	43
10-4	سۆز تەرجىمىسى ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	51
10-5	2025 ۋە 2025 يىلى ئىشلىتىش ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	54
10-6	سۆز تەرجىمىسى ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	54
11	سۆز تەرجىمىسى ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	55
11-1	سۆز تەرجىمىسى ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	55
11-1-1	سۆز تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	55
11-1-2	2025 ۋە 2025 يىلى ئىشلىتىش ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	57
11-1-3	2025 ۋە 2025 يىلى ئىشلىتىش ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	60
11-1-4	2025 ۋە 2025 يىلى ئىشلىتىش ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	61
11-1-5	سۆز تەرجىمىسى ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	61
11-2	سۆز تەرجىمىسى ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	61
11-2-1	سۆز تەرجىمىسى ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	61
11-2-2	سۆز تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	62
11-2-3	2025 ۋە 2025 يىلى ئىشلىتىش ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	63
11-2-4	سۆز تەرجىمىسى ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	64
11-2-5	2025 ۋە 2025 يىلى ئىشلىتىش ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	65
11-2-6	سۆز تەرجىمىسى ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	65
11-3	سۆز تەرجىمىسى ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	66
11-3-1	سۆز تەرجىمىسى ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	66
11-3-2	سۆز تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	66
11-3-3	2025 ۋە 2025 يىلى ئىشلىتىش ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	67
11-3-4	سۆز تەرجىمىسى ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	68
11-3-5	2025 ۋە 2025 يىلى ئىشلىتىش ۋە تەرجىمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى	69



86.....	2025 ۱۱-۷-۵	۱۱-۷-۵	۲۰۲۵ ۱۱-۷-۵
86.....	۱۱-۷-۶	۱۱-۷-۶	۲۰۲۵ ۱۱-۷-۶
87.....	۱۱-۸	۱۱-۸	۲۰۲۵ ۱۱-۸
87.....	۱۱-۸-۱	۱۱-۸-۱	۲۰۲۵ ۱۱-۸-۱
87.....	۱۱-۸-۲	۱۱-۸-۲	۲۰۲۵ ۱۱-۸-۲
88.....	۱۱-۸-۳	۱۱-۸-۳	۲۰۲۵ ۱۱-۸-۳
89.....	۱۱-۸-۴	۱۱-۸-۴	۲۰۲۵ ۱۱-۸-۴
90.....	۱۱-۸-۵	۱۱-۸-۵	۲۰۲۵ ۱۱-۸-۵
90.....	۱۱-۸-۶	۱۱-۸-۶	۲۰۲۵ ۱۱-۸-۶
90.....	۱۱-۹	۱۱-۹	۲۰۲۵ ۱۱-۹
90.....	۱۱-۹-۱	۱۱-۹-۱	۲۰۲۵ ۱۱-۹-۱
91.....	۱۱-۹-۲	۱۱-۹-۲	۲۰۲۵ ۱۱-۹-۲
92.....	۱۱-۹-۳	۱۱-۹-۳	۲۰۲۵ ۱۱-۹-۳
94.....	۱۱-۹-۴	۱۱-۹-۴	۲۰۲۵ ۱۱-۹-۴
95.....	۱۱-۹-۵	۱۱-۹-۵	۲۰۲۵ ۱۱-۹-۵
95.....	۱۱-۹-۶	۱۱-۹-۶	۲۰۲۵ ۱۱-۹-۶
95.....	۱۱-۱۰	۱۱-۱۰	۲۰۲۵ ۱۱-۱۰
95.....	۱۱-۱۰-۱	۱۱-۱۰-۱	۲۰۲۵ ۱۱-۱۰-۱
95.....	۱۱-۱۰-۲	۱۱-۱۰-۲	۲۰۲۵ ۱۱-۱۰-۲
96.....	۱۱-۱۰-۳	۱۱-۱۰-۳	۲۰۲۵ ۱۱-۱۰-۳
99.....	۱۱-۱۰-۴	۱۱-۱۰-۴	۲۰۲۵ ۱۱-۱۰-۴
101.....	۱۱-۱۰-۵	۱۱-۱۰-۵	۲۰۲۵ ۱۱-۱۰-۵
101.....	۱۱-۱۰-۶	۱۱-۱۰-۶	۲۰۲۵ ۱۱-۱۰-۶
101.....	۱۱-۱۱	۱۱-۱۱	۲۰۲۵ ۱۱-۱۱
101.....	۱۱-۱۱-۱	۱۱-۱۱-۱	۲۰۲۵ ۱۱-۱۱-۱
101.....	۱۱-۱۱-۲	۱۱-۱۱-۲	۲۰۲۵ ۱۱-۱۱-۲
102.....	۱۱-۱۱-۳	۱۱-۱۱-۳	۲۰۲۵ ۱۱-۱۱-۳







(د) چې سړي د ولسوالۍ د پوهنځي د لارښوونکي د لاس لاندې وي، نو د دې لارښوونکي د لاس لاندې وي.

(ه) د پوهنځي د لارښوونکي د لاس لاندې وي، نو د دې لارښوونکي د لاس لاندې وي.

د دې لارښوونکي د لاس لاندې وي، نو د دې لارښوونکي د لاس لاندې وي. د دې لارښوونکي د لاس لاندې وي، نو د دې لارښوونکي د لاس لاندې وي.

## 2.2 د پوهنځي د لارښوونکي د لاس لاندې وي

2025 کال د ولسوالۍ د پوهنځي د لارښوونکي د لاس لاندې وي، نو د دې لارښوونکي د لاس لاندې وي. د دې لارښوونکي د لاس لاندې وي، نو د دې لارښوونکي د لاس لاندې وي. د دې لارښوونکي د لاس لاندې وي، نو د دې لارښوونکي د لاس لاندې وي.







تہذیب و تمدن کے فروغ اور ترقی کے لیے حکومت پاکستان نے ایک جامع اور پرعوامی پروگرام تیار کیا ہے جس کے تحت ہر سال ایک خاص موضوع پر مبنی ایک سیمینار منعقد کیا جائے گا۔ اس سیمینار کے ذریعے ممالک اور علاقوں کے مابین تبادلہ خیال کیا جائے گا اور مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کیا جائے گا۔

2025 سالانہ سیمینار کے موضوعات اور تاریخیں				
#	موضوع	تاریخیں	مقام	بہبود
1	پاکستان کی ترقی اور ترقی کے لیے حکومت پاکستان کی پالیسی	9 اور 13	قائم آباد	-
2	ترقی اور ترقی کے لیے حکومت پاکستان کی پالیسی	22 اور 25	قائم آباد	ذاتی طور پر
3	پاکستان کی ترقی اور ترقی کے لیے حکومت پاکستان کی پالیسی	18	قائم آباد	-
4	پاکستان کی ترقی اور ترقی کے لیے حکومت پاکستان کی پالیسی	26 اور 27	قائم آباد	ذاتی طور پر
5	پاکستان کی ترقی اور ترقی کے لیے حکومت پاکستان کی پالیسی	27	قائم آباد	-
6	پاکستان کی ترقی اور ترقی کے لیے حکومت پاکستان کی پالیسی	6	قائم آباد	-
7	پاکستان کی ترقی اور ترقی کے لیے حکومت پاکستان کی پالیسی	11 اور 13	قائم آباد	-





	<p>اِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِّمْنَا سِرَّهُ وَخَوْفَهُ وَمَنْعَنَا شَرَّهُ وَبَدِّئْنَا بِحَبْلِكَ الْبَدِیِّ</p>			
<p>دَعْوَةُ قَوْمِ الْيَهُودِ سَمْعُوْنِ</p>	<p>اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِّمْنَا سِرَّهُ وَخَوْفَهُ وَمَنْعَنَا شَرَّهُ وَبَدِّئْنَا بِحَبْلِكَ الْبَدِیِّ</p>	29 جے ستر	<p>اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِّمْنَا سِرَّهُ وَخَوْفَهُ وَمَنْعَنَا شَرَّهُ وَبَدِّئْنَا بِحَبْلِكَ الْبَدِیِّ</p>	13
<p>دَعْوَةُ قَوْمِ الْيَهُودِ سَمْعُوْنِ</p>	<p>اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِّمْنَا سِرَّهُ وَخَوْفَهُ وَمَنْعَنَا شَرَّهُ وَبَدِّئْنَا بِحَبْلِكَ الْبَدِیِّ</p>	3 جے خوار، و. اِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	<p>اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِّمْنَا سِرَّهُ وَخَوْفَهُ وَمَنْعَنَا شَرَّهُ وَبَدِّئْنَا بِحَبْلِكَ الْبَدِیِّ</p>	14
<p>دَعْوَةُ قَوْمِ الْيَهُودِ سَمْعُوْنِ</p>	<p>اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِّمْنَا سِرَّهُ وَخَوْفَهُ وَمَنْعَنَا شَرَّهُ وَبَدِّئْنَا بِحَبْلِكَ الْبَدِیِّ</p>	7 جے خوار	<p>اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِّمْنَا سِرَّهُ وَخَوْفَهُ وَمَنْعَنَا شَرَّهُ وَبَدِّئْنَا بِحَبْلِكَ الْبَدِیِّ</p>	15
<p>دَعْوَةُ قَوْمِ الْيَهُودِ سَمْعُوْنِ</p>	<p>اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِّمْنَا سِرَّهُ وَخَوْفَهُ وَمَنْعَنَا شَرَّهُ وَبَدِّئْنَا بِحَبْلِكَ الْبَدِیِّ</p>	13 اِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ 7 جے خوار اِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	<p>اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِّمْنَا سِرَّهُ وَخَوْفَهُ وَمَنْعَنَا شَرَّهُ وَبَدِّئْنَا بِحَبْلِكَ الْبَدِیِّ</p>	16

<p>دوسرا حصہ مکمل ہو گیا ۱۷ روزہ تک مکمل ہو گیا</p>	<p>۱۷ اور 13 بچے اور ڈاکٹر ڈاکٹر اور ڈاکٹر</p>	<p>۱7 بچے اور ڈاکٹر بچے اور ڈاکٹر</p>
	<p>بچے اور ڈاکٹر بچے اور ڈاکٹر</p>	
	<p>بچے اور ڈاکٹر بچے اور ڈاکٹر</p>	
	<p>بچے اور ڈاکٹر بچے اور ڈاکٹر</p>	
	<p>بچے اور ڈاکٹر بچے اور ڈاکٹر</p>	
	<p>بچے اور ڈاکٹر بچے اور ڈاکٹر</p>	
<p>دوسرا حصہ مکمل ہو گیا ۲۱ روزہ تک مکمل ہو گیا</p>	<p>20 اور 21 بچے اور ڈاکٹر ڈاکٹر</p>	<p>18 بچے اور ڈاکٹر بچے اور ڈاکٹر</p>
	<p>بچے اور ڈاکٹر بچے اور ڈاکٹر</p>	
	<p>بچے اور ڈاکٹر بچے اور ڈاکٹر</p>	
<p>دوسرا حصہ مکمل ہو گیا ۲۳ اور 22 بچے اور ڈاکٹر مکمل ہو گیا</p>	<p>22 اور 23 بچے اور ڈاکٹر بچے اور ڈاکٹر</p>	<p>19 بچے اور ڈاکٹر بچے اور ڈاکٹر</p>
	<p>بچے اور ڈاکٹر بچے اور ڈاکٹر</p>	
<p>دوسرا حصہ مکمل ہو گیا ۳۱ اور 30 بچے اور ڈاکٹر مکمل ہو گیا</p>	<p>30 اور 31 بچے اور ڈاکٹر ڈاکٹر</p>	<p>20 بچے اور ڈاکٹر بچے اور ڈاکٹر</p>
	<p>بچے اور ڈاکٹر بچے اور ڈاکٹر</p>	
<p>دوسرا حصہ مکمل ہو گیا ۳۱ اور 2 بچے اور ڈاکٹر مکمل ہو گیا</p>	<p>2 اور 31 بچے اور ڈاکٹر ڈاکٹر</p>	<p>21 بچے اور ڈاکٹر بچے اور ڈاکٹر</p>
	<p>بچے اور ڈاکٹر بچے اور ڈاکٹر</p>	
	<p>بچے اور ڈاکٹر بچے اور ڈاکٹر</p>	













































19	19	اداری سہولت
2	2	سہولت فراہمی
15	15	اداری سہولت
7	7	سہولت فراہمی
8	8	اداری سہولت
91	91	مجموعہ

مجموعہ	اداری سہولت فراہمی	2025
1	1	اداری سہولت
1	1	سہولت فراہمی
0	0	اداری سہولت
1	1	سہولت فراہمی
4	4	اداری سہولت
0	0	سہولت فراہمی
2	2	اداری سہولت
4	4	سہولت فراہمی
0	0	اداری سہولت
7	7	سہولت فراہمی



تصنيفات ودرجات الامتحان. سبباً من الامتحان 2029 درجات في الامتحان، 1085 درجات في الامتحان ودرجات الامتحان 932 درجات في الامتحان ودرجات الامتحان 12 درجات في الامتحان.

درجات الامتحان 2173 درجات في الامتحان ودرجات الامتحان 115 درجات في الامتحان ودرجات الامتحان 18 درجات في الامتحان ودرجات الامتحان 14 درجات في الامتحان ودرجات الامتحان 18 درجات في الامتحان ودرجات الامتحان 2025 درجات في الامتحان ودرجات الامتحان 2288 درجات في الامتحان ودرجات الامتحان 52 درجات في الامتحان ودرجات الامتحان 2288 درجات في الامتحان.

#	نوع	18 درجات		بدرجة	
		درجة	درجة	ر	ر
1	الدرجة	1085	0	1027	58
2	الدرجة	0	12	12	0
3	الدرجة	930	2	885	47
	الدرجة (سبباً من الامتحان)	2015	14	1924	105
4	الدرجة	69	0	65	4
5	الدرجة	2	0	2	0
6	الدرجة	6	0	6	0
7	الدرجة	3	0	3	0
8	الدرجة	1	0	1	0
9	الدرجة	2	0	2	0
10	الدرجة	1	0	1	0
11	الدرجة	2	0	2	0
12	الدرجة	6	0	6	0
13	الدرجة	2	0	2	0

2	2	0	2	0	١٠.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	14
5	5	0	5	0	١١.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	15
4	4	0	4	0	١٢.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	16
3	3	0	3	0	١٣.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	17
16	16	0	16	0	١٤.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	18
11	11	0	11	0	١٥.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	19
5	5	0	5	0	١٦.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	20
1	1	0	1	0	١٧.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	21
2	2	0	2	0	١٨.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	22
2	2	0	2	0	١٩.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	23
1	1	0	1	0	٢٠.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	24
1	1	0	1	0	٢١.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	25
4	4	0	4	0	٢٢.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	26
1	1	0	0	1	٢٣.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	27
10	10	0	10	0	٢٤.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	28
6	6	0	6	0	٢٥.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	29
1	1	0	1	0	٢٦.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	30
16	16	0	16	0	٢٧.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	31
18	18	0	17	1	٢٨.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	32
6	6	0	6	0	٢٩.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	33
1	1	0	1	0	٣٠.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	34
4	4	0	4	0	٣١.٧. ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥ ٢٠٢٥	35









5	5	0	5	0	دس ٻوٽو ٻوٽو	49
5	5	0	4	1	دس ٻوٽو ٻوٽو	50
5	5	0	5	0	دس ٻوٽو ٻوٽو	51
5	5	0	5	0	دس ٻوٽو ٻوٽو	52
4	4	0	4	0	دس ٻوٽو ٻوٽو	53
4	4	0	4	0	دس ٻوٽو ٻوٽو	54
4	4	0	4	0	دس ٻوٽو ٻوٽو	55
4	4	0	4	0	دس ٻوٽو ٻوٽو	56
3	3	0	3	0	دس ٻوٽو ٻوٽو	57
3	3	0	3	0	دس ٻوٽو ٻوٽو	58
3	3	0	3	0	دس ٻوٽو ٻوٽو	59
3	3	0	0	3	دس ٻوٽو ٻوٽو	60
3	3	0	3	0	دس ٻوٽو ٻوٽو	61
3	3	0	1	2	دس ٻوٽو ٻوٽو	62
3	3	0	1	2	دس ٻوٽو ٻوٽو	63
3	3	0	2	1	دس ٻوٽو ٻوٽو	64
3	3	0	3	0	دس ٻوٽو ٻوٽو	65



2	2	0	2	0	עֵשֶׂת אֲשֶׁר לְיִצְחָק	80
2	2	0	2	0	עֵשֶׂת אֲשֶׁר לְרָחֵל וְעֵשֶׂת לְלֵאָה	81
2	2	0	2	0	עֵשֶׂת אֲשֶׁר לְיִצְחָק	82
2	2	0	2	0	רַחֵל אֲשֶׁר לְיִצְחָק	83
2	2	0	2	0	אֲשֶׁר לְרָחֵל וְאֲשֶׁר לְלֵאָה זֵכֶר וְשֵׁם	84
2	2	0	2	0	אֲשֶׁר לְרָחֵל וְאֲשֶׁר לְלֵאָה זֵכֶר וְשֵׁם וְשֵׁם אֲשֶׁר לְרָחֵל וְשֵׁם אֲשֶׁר לְלֵאָה	85
2	2	0	2	0	לְאֹנָת וְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה	86
2	2	0	2	0	לְרָחֵל וְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה	87
2	2	0	2	0	לְרָחֵל וְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה	88
2	2	0	2	0	לְרָחֵל וְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה	89
1	1	0	1	0	אֲשֶׁר לְרָחֵל וְאֲשֶׁר לְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה	90
1	1	0	1	0	אֲשֶׁר לְרָחֵל וְאֲשֶׁר לְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה	91
1	0	1	1	0	אֲשֶׁר לְרָחֵל וְאֲשֶׁר לְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה	92
1	1	0	1	0	אֲשֶׁר לְרָחֵל וְאֲשֶׁר לְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה	93
1	1	0	1	0	אֲשֶׁר לְרָחֵל וְאֲשֶׁר לְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה	94
1	1	0	1	0	אֲשֶׁר לְרָחֵל וְאֲשֶׁר לְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה	95
1	1	0	1	0	אֲשֶׁר לְרָחֵל וְאֲשֶׁר לְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה	96
1	1	0	1	0	אֲשֶׁר לְרָחֵל וְאֲשֶׁר לְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה וְרָחֵל וְלֵאָה	97







2	2	0	2	0	لَا تَلْمِزْنَا مَا نَعْمَلُ وَتَوَدُّعًا ذِكْرًا لِرَبِّ رَبِّ ذَرْنَا، أَلَمْ نَكُنْ لَكَ آيَةً فَتَرْجَمَ رَسُولُكَ	17
2	2	0	2	0	أَلَمْ نَكُنْ لَكَ آيَةً فَتَرْجَمَ رَسُولُكَ	18
2	2	0	2	0	ذُرِّيَّةً مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ	19
2	2	0	2	0	وَأَنْتُمْ أَعْيُنُكُمْ	20
2	2	0	2	0	ذَكَرْتُ سَبْحًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَكْفُرُوا أَكْثَرَ أَنْ يَكْفُرُوا أَوَّلًا	21
2	2	0	2	0	ذَرْنُوا	22
2	2	0	2	0	فَتَرْجَمُوا	23
2	2	0	2	0	فَتَرْجَمُوا سَبْحًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَكْفُرُوا أَكْثَرَ أَنْ يَكْفُرُوا أَوَّلًا	24
2	2	0	2	0	بِحَقِّ قَوْلِ 1 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَقْرَأُوا كِتَابَ اللَّهِ فَتَقُولُوا مَا هِيَ إِلَّا آيَاتُ الْمُرْسَلِينَ	25
2	2	0	2	0	ذُرِّيَّةً مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ	26
1	1	0	1	0	مَنْ يَرْجَمْ	27
1	1	0	1	0	كَلِمَاتٍ كُفْرًا	28
1	1	0	1	0	لَا تَلْمِزْنَا مَا نَعْمَلُ وَتَوَدُّعًا ذِكْرًا لِرَبِّ رَبِّ	29
1	0	1	1	0	ذَرْنُوا سَبْحًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَكْفُرُوا أَكْثَرَ أَنْ يَكْفُرُوا أَوَّلًا	30
1	1	0	0	1	بِحَقِّ قَوْلِ 1 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَقْرَأُوا كِتَابَ اللَّهِ فَتَقُولُوا مَا هِيَ إِلَّا آيَاتُ الْمُرْسَلِينَ	31
1	1	0	1	0	بِحَقِّ قَوْلِ 1 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَقْرَأُوا كِتَابَ اللَّهِ فَتَقُولُوا مَا هِيَ إِلَّا آيَاتُ الْمُرْسَلِينَ	32
1	1	0	1	0	مَنْ يَرْجَمْ	33
1	1	0	0	1	بِحَقِّ قَوْلِ 1 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَقْرَأُوا كِتَابَ اللَّهِ فَتَقُولُوا مَا هِيَ إِلَّا آيَاتُ الْمُرْسَلِينَ	34



















11.2.3 2025 وِسَرِ اَرَبِيَّةٍ فَرَدَوْنِيَّةٍ اِ اَرَبِيَّةٍ دَرَسَوَعِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ

2025 وِسَرِ اَرَبِيَّةٍ سَرِيحِيَّةٍ س. كَوْنِيَّةٍ فَرَدَوْنِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ دَرَسَوَعِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ سَرِيحِيَّةٍ، جَمْعِيَّةٍ 22 كَوْنِيَّةٍ دَرَسَوَعِيَّةٍ 61 دَرَسِيَّةٍ دَرَسِيَّةٍ فَرَدَوْنِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ سَرِيحِيَّةٍ، اَرَبِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ سَرِيحِيَّةٍ وِسَرِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ 12 دَرَسِيَّةٍ دَرَسِيَّةٍ فَرَدَوْنِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ سَرِيحِيَّةٍ، اَرَبِيَّةٍ دَرَسِيَّةٍ دَرَسِيَّةٍ دَرَسِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ سَرِيحِيَّةٍ 07 دَرَسِيَّةٍ دَرَسِيَّةٍ فَرَدَوْنِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ سَرِيحِيَّةٍ

دَرَسَوَعِيَّةٍ فَرَدَوْنِيَّةٍ فَرَدَوْنِيَّةٍ كَوْنِيَّةٍ جَمْعِيَّةٍ اَرَبِيَّةٍ دَرَسَوَعِيَّةٍ سَرِيحِيَّةٍ، فَرَدَوْنِيَّةٍ كَوْنِيَّةٍ سَرِيحِيَّةٍ جَمْعِيَّةٍ 01 اَرَبِيَّةٍ رَدِيَّةٍ رَدِيَّةٍ رَدِيَّةٍ اَرَبِيَّةٍ 60 اَرَبِيَّةٍ دَرَسَوَعِيَّةٍ رَدِيَّةٍ فَرَدَوْنِيَّةٍ كَوْنِيَّةٍ اَرَبِيَّةٍ سَرِيحِيَّةٍ رَدِيَّةٍ دَرَسِيَّةٍ 18 اَرَبِيَّةٍ دَرَسِيَّةٍ فَرَدَوْنِيَّةٍ 2025 وِسَرِ اَرَبِيَّةٍ سَرِيحِيَّةٍ س. كَوْنِيَّةٍ فَرَدَوْنِيَّةٍ فَرَدَوْنِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ 2025 وِسَرِ اَرَبِيَّةٍ دَرَسَوَعِيَّةٍ فَرَدَوْنِيَّةٍ رَدِيَّةٍ دَرَسِيَّةٍ جَمْعِيَّةٍ اَرَبِيَّةٍ دَرَسَوَعِيَّةٍ سَرِيحِيَّةٍ اَرَبِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ

جَمْعِيَّةٍ	18 اَرَبِيَّةٍ		جَمْعِيَّةٍ		دَرَسَوَعِيَّةٍ كَوْنِيَّةٍ	#
	دَرَسِيَّةٍ	فَرَدَوْنِيَّةٍ	رَدِيَّةٍ	اَرَبِيَّةٍ		
12	12	0	12	0	اَرَبِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ سَرِيحِيَّةٍ وِسَرِيَّةٍ	1
7	7	0	7	0	اَرَبِيَّةٍ دَرَسِيَّةٍ دَرَسَوَعِيَّةٍ دَرَسَوَعِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ سَرِيحِيَّةٍ كَوْنِيَّةٍ رَدِيَّةٍ	2
5	5	0	5	0	اَرَبِيَّةٍ سَرِيحِيَّةٍ كَوْنِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ	3
5	5	0	5	0	وِسَرِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ	4
4	4	0	4	0	اَرَبِيَّةٍ رَدِيَّةٍ دَرَسِيَّةٍ	5
3	3	0	3	0	اَرَبِيَّةٍ سَرِيحِيَّةٍ كَوْنِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ	6
3	3	0	3	0	دَرَسَوَعِيَّةٍ دَرَسَوَعِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ دَرَسِيَّةٍ	7
3	3	0	3	0	اَرَبِيَّةٍ دَرَسَوَعِيَّةٍ كَوْنِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ   اَرَبِيَّةٍ دَرَسَوَعِيَّةٍ كَوْنِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ	8
3	3	0	3	0	اَرَبِيَّةٍ دَرَسَوَعِيَّةٍ كَوْنِيَّةٍ نَدْوَى كَوْنِيَّةٍ	9
2	2	0	2	0	دَرَسَوَعِيَّةٍ اَرَبِيَّةٍ	10







2	2	0	2	0	س.ج.تر ڈیپارٹمنٹ	9
8	8	0	8	0	س.ر.ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ	10
21	21	0	21	0	س.ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ	11
6	6	0	6	0	س.ر.ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ	12
62	62	0	62	0	جمعہ	

**11.3.3 2025 وائس چانسلر کے دفتر اور دیگر اداروں کی سرکاری ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست**

2025 وائس چانسلر کے دفتر اور دیگر اداروں کی سرکاری ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست کے تحت 20 کالوں کی ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست پیش کی گئی ہے۔ ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست کے تحت 54 ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست پیش کی گئی ہے۔ ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست کے تحت 11 ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست پیش کی گئی ہے۔ ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست کے تحت 07 ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست پیش کی گئی ہے۔

ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست کے تحت 54 ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست پیش کی گئی ہے۔ ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست کے تحت 18 ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست پیش کی گئی ہے۔ ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست کے تحت 54 ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست پیش کی گئی ہے۔ ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست کے تحت 18 ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست پیش کی گئی ہے۔ ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست کے تحت 54 ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست پیش کی گئی ہے۔ ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست کے تحت 18 ڈیپارٹمنٹوں کی فہرست پیش کی گئی ہے۔

#	ڈیپارٹمنٹ کا نام	تعداد			
		18	18	18	18
1	ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ / ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ	11	0	11	0
2	ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ	7	0	7	0
3	ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ	5	0	5	0
4	ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ	4	0	4	0
5	ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ	3	0	3	0



























تعمیراتی کاروں کے لیے فراہم کیے گئے فنڈز کی تفصیلات، فراہم شدہ فنڈز کی تفصیلات اور ان کے استعمال کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے ممبرانہ رپورٹ دیکھیں۔

#	فراہم شدہ فنڈز	تعمیراتی				18 اگست	تعمیراتی
		ا	ب	تعمیراتی	تعمیراتی		
1	1	0	1	0	1	0	
					1	0	

**11.6.5 2025 میں فراہم کیے گئے فنڈز کی تفصیلات اور ان کے استعمال کے بارے میں مزید تفصیلات**

2025 میں فراہم کیے گئے فنڈز کی تفصیلات اور ان کے استعمال کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے ممبرانہ رپورٹ دیکھیں۔ 56 فنڈز فراہم کیے گئے۔ 2025 میں فراہم کیے گئے فنڈز کی تفصیلات اور ان کے استعمال کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے ممبرانہ رپورٹ دیکھیں۔ 48 فنڈز فراہم کیے گئے۔ ان فراہم شدہ فنڈز میں سے 03 فنڈز فراہم کیے گئے۔ ان فراہم شدہ فنڈز میں سے 03 فنڈز فراہم کیے گئے۔ ان فراہم شدہ فنڈز میں سے 03 فنڈز فراہم کیے گئے۔

**11.6.6 2025 میں فراہم کیے گئے فنڈز کی تفصیلات اور ان کے استعمال کے بارے میں مزید تفصیلات**

2025 میں فراہم کیے گئے فنڈز کی تفصیلات اور ان کے استعمال کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے ممبرانہ رپورٹ دیکھیں۔ 06 فنڈز فراہم کیے گئے۔ ان فراہم شدہ فنڈز میں سے 02 فنڈز فراہم کیے گئے۔ ان فراہم شدہ فنڈز میں سے 02 فنڈز فراہم کیے گئے۔ ان فراہم شدہ فنڈز میں سے 02 فنڈز فراہم کیے گئے۔

**11.7. جنرل**

**11.7.1 جنرل فراہم کیے گئے فنڈز کی تفصیلات اور ان کے استعمال کے بارے میں مزید تفصیلات**

2025 میں فراہم کیے گئے فنڈز کی تفصیلات اور ان کے استعمال کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے ممبرانہ رپورٹ دیکھیں۔ 62 فنڈز فراہم کیے گئے۔ ان فراہم شدہ فنڈز میں سے 62 فنڈز فراہم کیے گئے۔ ان فراہم شدہ فنڈز میں سے 62 فنڈز فراہم کیے گئے۔















1	1	0	1	0	کامیابی حاصل	11
1	1	0	1	0	ناتوانی حاصل	12
1	1	0	1	0	انسانی ذرائع کی کمی	13
1	1	0	1	0	مواد کی کمی	14
1	1	0	1	0	تعمیراتی کاموں کی کمی	15
32	32	0	32	0	مجموعی	

**11.8.4** **پروگراموں کی نگرانی اور نگرانی کی رپورٹیں**

2025 میں انسانی وسائل کی کمی، 06 مئی کی تاریخ پر 12 مئی کی رپورٹ پر مبنی طور پر نگرانی کی رپورٹیں حاصل کی گئیں۔ انسانی وسائل کی کمی، 04 مئی کی تاریخ پر 04 مئی کی رپورٹ پر مبنی طور پر نگرانی کی رپورٹیں حاصل کی گئیں۔ انسانی وسائل کی کمی، 03 مئی کی تاریخ پر 03 مئی کی رپورٹ پر مبنی طور پر نگرانی کی رپورٹیں حاصل کی گئیں۔

پروگراموں کی نگرانی اور نگرانی کی رپورٹیں حاصل کی گئیں۔ انسانی وسائل کی کمی، 03 مئی کی تاریخ پر 03 مئی کی رپورٹ پر مبنی طور پر نگرانی کی رپورٹیں حاصل کی گئیں۔ انسانی وسائل کی کمی، 03 مئی کی تاریخ پر 03 مئی کی رپورٹ پر مبنی طور پر نگرانی کی رپورٹیں حاصل کی گئیں۔

#	ذرائع کی کمی	تعمیراتی		18 مئی	
		ا	ب	تعمیراتی	تعمیراتی
1	انسانی ذرائع کی کمی	0	4	0	4
2	مواد کی کمی	0	3	0	3







2	2	0	2	0	په پورې کورني او بهرني، او کورني بهرني سولې او امنيتي چارو کې د پاملرني وړو موضوعو	11
1	1	0	1	0	په پورې کورني او بهرني چارو کې د پاملرني وړو موضوعو	12
1	1	0	0	1	په پورې کورني چارو کې	13
1	1	0	1	0	د پورې کورني او بهرني چارو کې د پاملرني وړو موضوعو	14
1	1	0	1	0	د پورې کورني او بهرني چارو کې د پاملرني وړو موضوعو	15
1	1	0	1	0	په پورې کورني چارو کې	16
1	1	0	1	0	په پورې کورني او بهرني چارو کې	17
1	1	0	1	0	د پورې کورني او بهرني چارو کې د پاملرني وړو موضوعو	18
1	1	0	1	0	د پورې کورني او بهرني چارو کې د پاملرني وړو موضوعو	19
1	1	0	1	0	په پورې کورني او بهرني چارو کې	20
1	1	0	1	0	د پورې کورني او بهرني چارو کې د پاملرني وړو موضوعو	21
1	1	0	1	0	په پورې کورني او بهرني چارو کې	22
1	1	0	1	0	د پورې کورني او بهرني چارو کې د پاملرني وړو موضوعو	23
1	1	0	1	0	د پورې کورني او بهرني چارو کې د پاملرني وړو موضوعو	24
1	1	0	1	0	د پورې کورني او بهرني چارو کې د پاملرني وړو موضوعو	25
1	1	0	1	0	د پورې کورني او بهرني چارو کې د پاملرني وړو موضوعو	26







فوسر ارزمتی هومبایر ارهه ۲۰۰۵ ختی قمرهوس قردو ررری قردو ار ارزمتی داسومبایر هومبایر، داسومبایر ارهه  
 دسرتی عسوس ارهه ارهه دسرتی هومبایر ارهه.

دسرتی	18 ارزمتی		عسوس		داسومبایر هومبایر	#
	دسرتی	قردو	ق	ا		
11	11	0	10	1	ارزمتی جراری دسرتی داسومبایر هومبایر ارهه	1
11	11	0	11	0	ارزمتی دسرتی داسومبایر هومبایر ارهه	2
7	7	0	7	0	ارزمتی دسرتی داسومبایر هومبایر ارهه	3
4	4	0	4	0	ارزمتی دسرتی داسومبایر هومبایر ارهه	4
4	4	0	4	0	ارزمتی جراری دسرتی داسومبایر هومبایر ارهه	5
4	4	0	3	1	ارزمتی دسرتی داسومبایر هومبایر ارهه	6
4	4	0	4	0	ارزمتی دسرتی داسومبایر هومبایر ارهه	7
3	3	0	2	1	ارزمتی دسرتی داسومبایر هومبایر ارهه	8
3	3	0	3	0	ارزمتی جراری دسرتی داسومبایر هومبایر ارهه	9
3	3	0	3	0	ارزمتی دسرتی داسومبایر هومبایر ارهه	10
3	3	0	3	0	ارزمتی دسرتی داسومبایر هومبایر ارهه	11
3	3	0	3	0	ارزمتی دسرتی داسومبایر هومبایر ارهه	12
3	3	0	3	0	ارزمتی دسرتی داسومبایر هومبایر ارهه	13
2	2	0	2	0	ارزمتی دسرتی داسومبایر هومبایر ارهه	14
2	2	0	2	0	ارزمتی دسرتی داسومبایر هومبایر ارهه	15
2	2	0	2	0	ارزمتی دسرتی داسومبایر هومبایر ارهه	16

2	2	0	2	0	<p>دېسره کورنۍ زېر جړنې، ا د جړنې د جړنې  سوکوسه اړوسه جړنې د جړنې د جړنې، سوکوسه  دسره کورنۍ، سوکوسه د جړنې د جړنې، دسره کورنۍ  د جړنې د جړنې، سوکوسه د جړنې د جړنې، سوکوسه  د جړنې د جړنې</p>	17
2	2	0	2	0	<p>د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې</p>	18
1	1	0	1	0	<p>د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې</p>	19
1	1	0	1	0	<p>د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې</p>	20
1	1	0	1	0	<p>د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې</p>	21
1	1	0	1	0	<p>د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې</p>	22
1	1	0	1	0	<p>د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې</p>	23
1	1	0	1	0	<p>د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې</p>	24
1	1	0	1	0	<p>د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې</p>	25
1	1	0	1	0	<p>د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې</p>	26
1	1	0	1	0	<p>د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې</p>	27
1	1	0	1	0	<p>د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې</p>	28
1	1	0	1	0	<p>د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې</p>	29
1	1	0	1	0	<p>د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې</p>	30
1	1	0	1	0	<p>د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې د جړنې</p>	31









نمبر ذريعه	18 اربھون		پندرھون		ذريعاتي مجموع	#
	حصہ	حصہ	م	ا		
20	20	0	18	2	اگرچہ چاروں ذريعاتي مجموعوں کو ملا کر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 20 اربھون کے برابر ہے۔	1
14	14	0	14	0	اگرچہ چاروں ذريعاتي مجموعوں کو ملا کر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 14 اربھون کے برابر ہے۔	2
12	12	0	12	0	اگرچہ چاروں ذريعاتي مجموعوں کو ملا کر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 12 اربھون کے برابر ہے۔	3
7	7	0	7	0	اگرچہ چاروں ذريعاتي مجموعوں کو ملا کر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 7 اربھون کے برابر ہے۔	4
7	7	0	7	0	اگرچہ چاروں ذريعاتي مجموعوں کو ملا کر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 7 اربھون کے برابر ہے۔	5
5	5	0	5	0	اگرچہ چاروں ذريعاتي مجموعوں کو ملا کر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 5 اربھون کے برابر ہے۔	6
4	4	0	4	0	اگرچہ چاروں ذريعاتي مجموعوں کو ملا کر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 4 اربھون کے برابر ہے۔	7
4	4	0	4	0	اگرچہ چاروں ذريعاتي مجموعوں کو ملا کر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 4 اربھون کے برابر ہے۔	8
4	4	0	4	0	اگرچہ چاروں ذريعاتي مجموعوں کو ملا کر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 4 اربھون کے برابر ہے۔	9
4	4	0	4	0	اگرچہ چاروں ذريعاتي مجموعوں کو ملا کر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 4 اربھون کے برابر ہے۔	10
4	4	0	4	0	اگرچہ چاروں ذريعاتي مجموعوں کو ملا کر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 4 اربھون کے برابر ہے۔	11
4	4	0	4	0	اگرچہ چاروں ذريعاتي مجموعوں کو ملا کر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 4 اربھون کے برابر ہے۔	12
3	3	0	3	0	اگرچہ چاروں ذريعاتي مجموعوں کو ملا کر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 3 اربھون کے برابر ہے۔	13
3	3	0	3	0	اگرچہ چاروں ذريعاتي مجموعوں کو ملا کر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 3 اربھون کے برابر ہے۔	14
3	3	0	3	0	اگرچہ چاروں ذريعاتي مجموعوں کو ملا کر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 3 اربھون کے برابر ہے۔	15























8	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ
9	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ
10	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ
11	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ
12	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ
13	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ
14	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ
15	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ
16	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ
17	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ
18	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ
19	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ
20	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ
21	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ
22	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ
23	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ
24	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ
25	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ
26	اِسْمُكَ بِحِزْبِ	اِسْمُكَ بِحِزْبِ





	۴۰	ذُرِّ اِرْدَاقٍ مَّرْبُوعٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۴۱	بُرُوقٍ مِّنْ سَاقٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۴۲	اِرْدَاقٍ مِّنْ مَّحَوِّصٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۴۳	اِرْقِطٍ مِّنْ مَّرْبُوعٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۴۴	اِبْرَسَةٍ مِّنْ اِرْبَعٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۴۵	مُرَبَّوعٍ مِّنْ رَّسَمٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۴۶	مُرَبَّوعٍ مِّنْ مَّحَوِّصٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۴۷	اِرْدَاقٍ مِّنْ مَّرْبُوعٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۴۸	اِبْرَسَةٍ مِّنْ مَّحَوِّصٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۴۹	رُوسٍ مِّنْ مَّرْبُوعٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۵۰	اِرْدَاقٍ مِّنْ مَّرْبُوعٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۵۱	اِرْدَاقٍ مِّنْ اِرْدَاقٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
۱	۵۲	رَمَحٍ مِّنْ مَّحَوِّصٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۵۳	اِرْقِطٍ مِّنْ اِرْبَعٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۵۴	رَسَمٍ مِّنْ رَّسَمٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۵۵	رَسَمٍ مِّنْ اِللهِ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۵۶	اِرْقِطٍ مِّنْ مَّرْبُوعٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۵۷	ذُرِّ اِرْدَاقٍ مِّنْ اِرْدَاقٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۵۸	اِبْرَسَةٍ مِّنْ اِرْبَعٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۵۹	اِرْدَاقٍ مِّنْ مَّحَوِّصٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۶۰	اِرْدَاقٍ مِّنْ اِرْبَعٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ
	۶۱	اِرْدَاقٍ مِّنْ مَّرْبُوعٍ	مُحَوِّصًا مِّنْ مَّحَوِّصٍ

	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	اَلْوَيْدُ الْوَيْدُ	62
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	وَيْدٌ مِّنْ وَّيْدٍ وَوَيْدٌ مِّنْ وَّيْدٍ	63
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	مَشْرِئُ الْوَيْدِ	64
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	وَيْدٌ مِّنْ وَّيْدٍ	65
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	وَيْدٌ مِّنْ وَّيْدٍ	66
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	مَشْرِئُ وَّيْدٍ	67
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	اَلْوَيْدُ الْوَيْدُ	68
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	اَلْوَيْدُ الْوَيْدُ	69
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	اَلْوَيْدُ الْوَيْدُ	70
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	وَيْدٌ مِّنْ وَّيْدٍ	71
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	وَيْدٌ مِّنْ وَّيْدٍ	72
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	مَشْرِئُ وَّيْدٍ	73
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	اَلْوَيْدُ الْوَيْدُ	74
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	اَلْوَيْدُ الْوَيْدُ	75
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	اَلْوَيْدُ الْوَيْدُ	76
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	اَلْوَيْدُ الْوَيْدُ	77
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	اَلْوَيْدُ الْوَيْدُ	78
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	اَلْوَيْدُ الْوَيْدُ	79
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	اَلْوَيْدُ الْوَيْدُ	80
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	اَلْوَيْدُ الْوَيْدُ	81
	قَسَمٌ مِّنْ قَسَمِ الْوَيْدِ	اَلْوَيْدُ الْوَيْدُ	82

	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	83
	اِنِّیْٓ اِنۡشِیْٓتُ الذِّکْرَ کَرِیْمًا	84
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	85
	اِنۡشِیْٓتُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	86
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	87
	اِنۡشِیْٓتُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	88
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	89
	اِنۡشِیْٓتُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	90
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	91
	اِنۡشِیْٓتُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	92
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	93
	اِنۡشِیْٓتُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	94
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	95
	اِنۡشِیْٓتُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	96
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	97
	اِنۡشِیْٓتُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	98
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	99
	اِنۡشِیْٓتُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	100
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	101
	اِنۡشِیْٓتُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	102
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	103
	اِنۡشِیْٓتُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	104



3	۵۴۰ ی شمسه	نام آریوس	آریوسیه رستور	127
1	۵۴۰ ی شمسه	نام آریوس	حج سیه	128
		نام آریوس	آریوس ناموس	129
3	۵۴۰ ی شمسه	وینسوس سوزس آریوس	آریوس سوزس	130
2	۵۴۰ ی شمسه	آریوس سوزس سوزس آریوس	آریوس سوزس	131
1	۵۴۰ ی شمسه	سوزس آریوس	آریوس سوزس	132
1	۵۴۰ ی شمسه	آریوس سوزس آریوس	آریوس سوزس	133
		آریوس سوزس آریوس	آریوس سوزس	134
1	۵۴۰ ی شمسه	آریوس سوزس	آریوس سوزس	135
1	۵۴۰ ی شمسه	آریوس سوزس	آریوس سوزس	136
4	۵۴۰ ی شمسه	آریوس سوزس نام آریوس	آریوس سوزس	137
		آریوس سوزس نام آریوس	آریوس سوزس	138
		آریوس سوزس نام آریوس	آریوس سوزس	139
2	۵۴۰ ی شمسه	آریوس سوزس آریوس	آریوس سوزس	140
		آریوس سوزس آریوس	آریوس سوزس	141
		آریوس سوزس آریوس	آریوس سوزس	142
3	۵۴۰ ی شمسه	آریوس سوزس نام آریوس	آریوس سوزس	143
		آریوس سوزس نام آریوس	آریوس سوزس	144
		آریوس سوزس نام آریوس	آریوس سوزس	145
		آریوس سوزس نام آریوس	آریوس سوزس	146
		آریوس سوزس نام آریوس	آریوس سوزس	147
		آریوس سوزس نام آریوس	آریوس سوزس	148

	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	149
2	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	150
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	151
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	152
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	153
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	154
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	155
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	156
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	157
1	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	158
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	159
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	160
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	161
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	162
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	163
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	164
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	165
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	166
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	167
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	168
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	169
	رَبِّهِمْ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ	170



		اِسْمِ سَمِيحٍ لَمْ يَكُنْ اِسْمًا (فَدِيحًا)	192
-		اِسْمٌ لَمْ يَكُنْ اِسْمًا	193
		اِسْمٌ لَمْ يَكُنْ اِسْمًا	194
		اِسْمٌ لَمْ يَكُنْ اِسْمًا	195
3	اِسْمٌ لَمْ يَكُنْ اِسْمًا	اِسْمٌ لَمْ يَكُنْ اِسْمًا	196
3		اِسْمٌ لَمْ يَكُنْ اِسْمًا	197
		اِسْمٌ لَمْ يَكُنْ اِسْمًا	198
2	اِسْمٌ لَمْ يَكُنْ اِسْمًا	اِسْمٌ لَمْ يَكُنْ اِسْمًا	199
1	اِسْمٌ لَمْ يَكُنْ اِسْمًا	اِسْمٌ لَمْ يَكُنْ اِسْمًا	200
-		اِسْمٌ لَمْ يَكُنْ اِسْمًا	201
3		اِسْمٌ لَمْ يَكُنْ اِسْمًا	202
		اِسْمٌ لَمْ يَكُنْ اِسْمًا	203








دفعہ نمبر	ر	م	س	ج	ب	ع	و	ز	د	س	ح	مجموعہ	تفصیلی تفصیل
340	21	1	3	8	3	8	12	6	9	43	27	199	مجموعہ دستاویزی
12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	8	نہایت ہی پرستی سے اس کے لئے دستاویزی
122	4	0	0	1	0	1	0	1	1	9	3	102	اس کے لئے دستاویزی اس کے لئے دستاویزی
185	9	2	4	7	0	0	2	3	10	5	4	139	اس کے لئے دستاویزی اس کے لئے دستاویزی
73	7	0	0	1	1	0	6	3	2	2	2	49	سربراہی کے لئے اس کے لئے دستاویزی اس کے لئے دستاویزی اس کے لئے دستاویزی
166	11	3	3	0	0	1	9	1	5	6	2	125	دستاویزی سے اس کے لئے دستاویزی
742	53	6	10	17	4	10	29	15	27	65	40	622	مجموعہ

## 6- خُزۇن


2025 ۋەسەن ئازىزىن خۇزۇنلارنىڭ سەۋىيەسىنى ئۆلچەش ئۈچۈن تەتقىقاتچىلار ئۆزلىرىنىڭ خۇزۇنلارنىڭ دەرىجىسىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن



## 7- خُزۇن

2025 ۋەسەن ئازىزىن خۇزۇنلارنىڭ سەۋىيەسىنى ئۆلچەش ئۈچۈن تەتقىقاتچىلار ئۆزلىرىنىڭ خۇزۇنلارنىڭ دەرىجىسىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن

خۇزۇنلارنىڭ دەرىجىسىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن



ر. قوٲسٲرٲ، 12 ٲسٲر قوٲسٲر ٲوٲو،  
رٲسٲر رٲرٲسٲر ٲوٲو،  
ٲوٲو 20096، ٲرٲر ٲرٲر ٲوٲو

قوٲسٲر: 3000655    قوٲسٲر: 3000644  
ٲرٲر ٲوٲو: [pgoffice@pgoffice.gov.mv](mailto:pgoffice@pgoffice.gov.mv)